

## لبرل ازم کیا ہے اور کیا نہیں؟

مرزا محمد الیاس<sup>۰</sup>

یورپ کی نشاتی ثانیوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے افکار و نظریات میں بہت زبردست انقلاب رونما ہوا۔ یہ انقلاب اس قدر ہمہ گیر اور ہمہ جہت تھا، جس نے انسانیت کو ہر اعتبار سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہو گا کہ اس فکری و عملی انقلاب کا دائرہ اور اثرات انقلاب فرانس اور انقلاب امریکا کا بھی سبب بنے۔ اس طرح مذہب، سیاست، معاشرت پر نئے افکار و نظریات نے تبدیلوں کے راستے کھولے۔ یہ تبدیلیاں تعمیر و تحریب کی ذہری صفات کی حامل تھیں۔ فرد کی سطح پر تعلیم، تربیت، شخصیت اور کردار متاثر ہوئے تو رویوں میں بھی کش کش، نئے پن اور پرانے پن میں فاصلوں، مخالفت، حتیٰ کہ نفرت نے بھی جگہ بنائی۔ ان ہمہ گیر تبدیلوں کو جس انقلاب نے جنم دیا، صورت دی یا وہ ان تبدیلیوں کا جواز ٹھیک، وہ لبرل ازم کا ابھرنا اور برہ راست مذہب و معاشرت کو چلینج کرنا تھا۔ لبرل ازم نے بادشاہت اور پاپائیت کی جگ سے جنم لایا تھا۔ اس طرح جنگ، کش کش، تصادم اور تبدیلی اس کی پیدائشی صفات تھیں۔ سب کچھ تبدیل کرنے والا لبرل ازم اپنی ان صفات سے کبھی بھی پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ آج بھی لبرل حکومتوں کا ریکارڈ انھی صفات سے بھرا پڑا ہے۔

لبرل ازم نے ان صفات میں سے تبدیلی کی صفت سے انسانیت اور معاشرے کو ہمہ گیر طور پر متاثر کیا ہے۔ یہ اعتراف کرنا ناصافی ہو گی کہ لبرل ازم نے یورپ کو تاریک دور سے نکالا اور اس کے دورخوش حالی اور روشن خیالی کا ایک نیا باب تحریر کیا۔

<sup>۰</sup> سابق مدیر ہفت روزہ ایشیا، لاہور

لبرل ازم—کیا ہے اور کیا نہیں؟

□ لبرل ازم: لبرل ازم کیا ہے؟ یہ بہت آسان سوال ہے۔ ابتداء ہی میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ لبرل ازم، سیکولر ازم نہیں ہے۔ سیکولر ازم منزل ہے، جب کہ لبرل ازم راستہ ہے۔ لبرل ازم ایک سیاسی نظریہ ہے۔ یہ مذہب، اعتقاد یا ایمان سے مختلف ہے۔ اس نظریے یا فلسفے کی بنیاد و اصولوں پر رکھی گئی ہے: پہلا اصول آزادی ہے اور دوسرا اصول مساوات۔ جس کام، کردار، عمل، روایے، فکر یا عقیدے میں یہ دو اصول موجود نہیں، یا ایک نہیں اور دوسرا نہیں، اسے لبرل ازم نہیں کہا جاسکتا۔ ان اصولوں سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا فرق ہے جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اسے ذیل میں آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

ہم پہلے آزادی کے اصول کو لیتے ہیں۔ آزادی سے سادہ الفاظ میں مراد یہ ہے کہ انسان ایک فرد کی حیثیت سے ہر طرح سے آزاد ہے۔ اس پر کسی قدفعن، پابندی، ضابطے، اخلاق، قید یا سزا کے اطلاق سے اسے انسانی فطرت سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کوئی مذہب، الہامی، روحانی ہدایت یا فلسفہ اسے اس کی آزادیوں سے محروم نہیں کر سکتا۔ انسان کی حیثیت برتر ہے۔ کسی کی حاکیت، خواہ وہ اللہ، خداوند، رام، دیوتا ہی کیوں نہ ہو، وہ حاکیت اعلیٰ نہیں۔ اس لیے معاشروں میں انسان کے سوا کسی کی حاکیت اعلیٰ تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اسی اصول کی رو سے ریاست اور حکومت کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ ریاست سیکولر ہوتی ہے اور حکومت اپنے کام، کردار اور پالیسی میں سیکولر ہوتی ہے۔

آزادی کی حدود لامحدود ہیں، تاہم کچھ ناموں یا اصطلاحات سے اس کو بیان کیا جاتا ہے:  
 • آزادی سے مراد آزادی اظہار، صحافت، مذہب، خیال وغیرہ ہیں۔ شہری آزادیاں، انسانی حقوق، قانونی حقوق، سب اس میں شامل ہیں۔ کوئی لبرل حکومت یا ریاست ان کو کسی صورت میں سلب نہیں کر سکتی، ان کو محدود نہیں کر سکتی۔

• سیکولر ریاست اور جمہوریت میں ووٹ کا حق، نمائندگی لینے اور دینے کا حق فرد کو حاصل ہے۔ ایک فرد ایک ووٹ سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔

• آزاد مارکیٹ، سرمایہ داری، آزاد تجارت، اجارہ داری سے تحفظ اور میں الاقوامی تعاون ہر ریاست، حکومت اور ملک کی صواب دید ہے۔ سرمایہ داری اور معاشی اصلاحات کو

لبرل ازم۔ کیا ہے اور کیا نہیں؟

### چینچ نہیں کیا جاسکتا۔

- اب آئیے مساوات کے اصول کی بات کرتے ہیں۔ جس قدر آزادی کا اصول ہمہ گیر سمجھا جاتا ہے مساوات کا اصول بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تاہم اس کی اطلاقی حیثیت اور عملی کیفیت ابھی تک وہ نہیں ہے جو آزادی کے اصول کو حاصل ہو چکی یادی جا چکی ہے۔ اسے یوں بیان کیا جاسکتا ہے:
- شخصی مساوات جس میں صنف، ذات، رنگ، نسل، علاقہ، زبان، مذہب، عقیدہ یا خیال کی وجہ سے کسی مرد یا عورت کو دوسروں سے کم تریا ہر ترقار دیا یا سمجھا نہیں جاسکتا۔
- صنفی آزادی ہمہ گیر ہے اور صنفی مساوات بھی ہمہ گیر۔ کسی مرد یا عورت کو اس کی صنف کی بنیاد پر حقوق، مراءات، کردار، کام، موقع اور امکانات سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔
- طلاق، نکاح، ازدواجی تعلق کی بنا پر مرد اور عورت کو اکٹھ رہنے، الگ ہو جانے، جنسی تعلق قائم کرنے یا نہ کرنے پر مجبو نہیں کیا جاسکتا۔ استقطابِ حمل، ہم جنس شادی کا حق سلب نہیں کیا جاسکتا۔

آزادی اور مساوات کے ان دو اصولوں کو تسلیم کرنا لبرل ازم کا اولین تقاضا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو اصول مختلف اور متنوع اطلاق رکھتے ہیں۔ ان کا اظہار اور استعمال فرد، گروہ، معاشرت، قوم اور ملک میں مختلف ہے۔ ان کی تشریحات مذہب، عقیدے، نظریے کی رو سے یکساں نہیں ہیں۔ مغربی معاشروں میں آزادی اظہار مذہبی شخصیات کے بارے میں جو کچھ تائج پیدا کرتی ہے، مسلم معاشروں میں اس سے مزاحمت، نفرت، جارحیت، بے بُی اور مایوسی کے رو یہ اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں لبرل ازم ان دونوں اصولوں کو ہی مقدم رکھتا ہے۔

- لبرل کون؟ اب ایک اور سوال اہم تر ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ لبرل کون ہے؟
- بظاہر تو سیدھا جواب یہ ہے کہ لبرل ازم کا پیروکار، اس کا ماننے اور اس پر عمل پیرا ہی لبرل ہے، تاہم اس سوال کا نہایت آسان جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ لبرل وہ ہے جو:
- اپنی شخصیت، رائے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، مذہب، عقیدہ، خیال، تعلیم، کچھ بھی ہو، اس کے خلاف یا علی الرغم دوسری رائے کا احترام کرتا ہو۔ مثال کے طور پر وہ تو حید پر ایمان رکھتا ہے تو کسی کو یہ نہ کہے کہ تم مشرک ہو، کافر ہو وغیرہ۔

- وہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس اور استدلال، منطق و فلسفہ اور دیگر دنیاوی تعامل میں سے ابھرنے والے نئے تصورات، نظریات، عقائد، روحانیات کا احترام کرے۔
- وہ کسی فرد کی طرف سے شادی کی کسی بھی صورت اختیار کرنے پر اس کی ندمت نہ کرے، نفرت کا اظہار نہ کرے، خواہ مرد مرد سے یا عورت عورت سے شادی کرے۔ کوئی مرد یا عورت ازدواجی تعلق کے بغیر جنسی تعلق قائم کریں تو اس پر گرفت نہ کرے، ندمت یا نفرت نہ کرے۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان اعمال، رویوں اور کاموں کو برا سمجھے لیکن دوسروں کے حق کے طور پر ان کا احترام کرے۔
- وہ کسی مذہبی، اعتقادی یا روحانی اخلاقیات کا ذاتی حیثیت میں پابند ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کو ایسی اخلاقیات کا پابند بنا سکتا ہے اور نہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ اس کا اظہار اور پرچار یوں کر سکتا ہے کہ جو لوگ اس سے متفق نہ ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو۔
- وہ فرد کی حیثیت سے لبرل تعلیم کا حامی ہو، اس کے لیے کسی مذہبی یا اعتقادی تربیت کو لازمی نہ سمجھے۔
- اور پر بیان کردہ کیفیات اور شرائط کسی بھی لبرل کی ذات یا شخصیت کا احاطہ کرتی ہیں۔ معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے لبرل کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے:

  - لبرل یہ تسلیم کرتا ہے کہ حکومت کا کام کار و بار سنبھالنا ہرگز نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرت اور سیاست میں آنے والی تبدیلیوں کا احترام کرے، استبداد کی ہر ممکن صورت کو ختم کرے۔ اضافی اور غیر ضروری قوانین، جیسا کہ اسلامی قوانین ہیں، کا خاتمہ کرے۔ وہ سیاسی جماعت کی مدد سے بر سر اقتدار آئے لیکن ریاست کو مقدم رکھے۔ ریاست کو کسی الہامی نظریے، عقیدے کا پابند نہ کرے اور کسی مذہب کو سرکاری نہ بنائے۔
  - معاشرے اور ریاست کو قدمات پرستی کی جانب جانے سے بچائے، آمرانہ حاکیت قائم نہ کرے۔ حاکیت اعلیٰ کے طور پر غیر انسانی، الہامی احتماری کو مقرر نہ کرے۔
  - انفرادی و سیاسی آزادیوں کی ضمانت دے، معاشری آزادی بحال کرے، حکومت میں عام آدمی کی شرکت کو یقینی بنائے، سیاسی و انتظامی اصلاحات کرے، آئین اور قانون کی

"لبرل ازم"—کیا ہے اور کیا نہیں؟

### عمل داری قائم کرے۔

□ قدامت پرست کون؟ اب ہم دیکھیں گے کہ قدامت پرست کون ہے؟ قدامت پرست کو لبرل کا متفاہ کہا جاتا ہے۔ جو فرد لبرل نہیں وہ اس اعتبار سے قدامت پرست ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہے، وہ قدامت پرست ہے۔ تاہم قدامت پرست کا متفاہ ہر حال میں لبرل نہیں ہو گا۔

ہمارے معاشرے میں بھی یہ بحث جاری ہے کہ قدامت پرست کون ہے اور لبرل کون؟ عام طور پر جب کسی کو قدامت پرست، کہا جاتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ کسی نے اسے گالی دی ہے۔ اس سے جاریت ابھرتی اور اشتعال پیدا ہوتا ہے۔

یہ بالکل فطری سوال ہے کہ قدامت پرست کون ہے؟ پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ لبرل کا متفاہ ہے۔ یہ معاشرت کے طے شدہ اصولوں اور مروجہ نظام کا دفاع کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں یہ خلط بحث بھی ہو جاتا ہے کہ ایک طرف قدامت پرست ہے یا راویت پرست ہے تو اس کے مقابل دوسرا فروشن خیال ہے، سیکولر ہے یا لبرل ہے یا پھر جدیدیت پرست، جسے انگریزی زبان میں ماڈرن کہا جاتا ہے۔

سب سے پہلے دیکھیے کہ قدامت پرست کون ہے؟

• کسی بھی مذہب کا پیروکار، خواہ مسلم ہو یا مسیحی، یہودی ہو یا یہندو یا کسی روحانی سلسلے پر کارپند ہو، جیسا کہ بدھ مت، جین ملت، کسی فکر کا پابند ہو، جیسے کنفیوشن ازم وغیرہ۔ ان سب میں سے وہ قدامت پرست قرار دیا جاتا ہے جو اپنے عقیدے یا نظریے کی روایات کا پابند ہو، اگر الہامی کتاب ہے تو اس کی لبرل تعبیر پر اعتراض کرتا ہو۔

• مذہبی تعلیمات اور ایمانیات سے انحراف گناہ تصور کرتا ہو، حق اور باطل میں فرق کرتا ہو، اچھے اور بُرے کی تمیز کرتا ہو، حلال و حرام کا پابند ہو، اس میں نوعیت، شدت اور درجے کا فرق ہو سکتا ہے۔

• اپنے مذہبی، روحانی، اعتقادی یا نظری رویوں، اعتقادات اور اظہار میں وقت کے ساتھ تبدیلی نہ لاتا ہو۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان صریح شرعی نصوص پر ایمان رکھتا ہے۔

انھیں مسترد کرنے کا تحریف یا تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ قدامت پرست ہے جس میں نئے خیالات کی گنجائش نہیں ہے۔

• دنیا کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اسے صرف ایمان یا نظریہ سے ہی دیکھا اور بتا جاسکتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص انعام ہوتا ہے۔ اس میں بھی کمی میشی اور رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔

• کسی مذہب یا اعتقاد کی قدامت پرستی کا انحصار اس پر نہیں کہ زمانی اعتبار سے وہ کتنا پرانا ہے، جیسا کہ میسیحیت کی مثال ہے۔ یہ اسلام سے صد یوں پرانا مذہب ہے۔ اسلام کو قدامت پرست مذہب کہا جاتا ہے۔

□ لبرل ازم اور قدامت پرستی کا فرق: ان اصولوں اور کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی بڑے خلط بحث کا خطرہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایک مختصر ساموازن و تقابل یہاں پیش کر رہے ہیں جس سے واضح طور پر یہ فرق اور قدامت پرستی کا مفہوم سامنے آجائیں گے۔

• مثال کے طور پر ہمارے معاشروں میں اہل دین کو دائیں بازو دالے کہتے ہیں۔ جب یہ معاملہ عالم گیر سطح پر آتا ہے تو لبرل طبقات کو دائیں بازو سے موسم کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ خلط بحث پھر پیدا ہوتا ہے کہ 'لبرل' اور 'اہل دین' تو ایک ہو سکتے ہیں، جب کہ دوسروں سے اہل دین قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ شدید مغالطہ ہے۔ اہل دین کو توبہ کے قریب ہونا ہے کیونکہ وہ تو داعی ہیں۔ انھیں معاشرے کے صالح اور باکردار افراد کو منظم قوت میں ڈھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح ضرورت پڑنے پر لبرل طبقات اہل دین کی قوت اور صلاحیت استعمال کر جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد اس کی مثال ہے۔ متحده مجلس عمل بظاہر دینی اتحاد تھا۔ لیکن جمیعت العلماء اسلام لبرل سیاست کی جماعت ہے۔ اس لیے خلط بحث اس قدر بڑھا کہ قابو میں نہ آسکا اور نتائج سب کے سامنے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اہل دین کو لبرل طبقات کی حمایت اور قوت میسر نہیں آتی۔ یہ معاملہ تحریک انصاف، مسلم ایگ (ان) سمیت اس کے دیگر گروہوں کی سیاست سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ ان کی قوت دینی نظریات کو تقویت نہیں دے سکتی۔ دائیں اور بائیں جانے سے احتیاط ضروری ہے۔

• لبرل تصورات میں پہلے پہل یہ نظریہ تھا کہ حکومت چھوٹی ہو۔ اب یہ طبقہ لبرل نہیں کہلاتا بلکہ اسے Libertarian کہا جاتا ہے۔ قدامت پرست حکومت کو عام طور پر باسیں بازو کی حکومت کہا جاتا ہے۔ فیڈل کاسترو کا کیوبا قدامت پرست اور باسیں بازو کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ صدر قذافی کا لیبیا سجدہ سہو کرنے سے پہلے اسی زمرے میں آتا تھا۔ صدام حسین کا عراق بہت دل چسب مثال ہے۔ یہ پہلے داسیں بازو کا ملک تھا۔ ایران پر حملہ کیا تو داسیں بازو، یعنی امریکا، برطانیہ نے اس کی پیٹھ خوب ٹھوکی۔ جب یہ ناپسندیدہ ہو گیا تو باسیں بازو کا قرار دے دیا گیا اور اس کی ایئٹ سے ایئٹ بجادی گئی۔ بہرحال قدامت پرست حکومت اپنے عوام پر بہت سے قوانین نافذ کرتی ہے۔ ریاست پولیس شیٹ کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہر حکومت ریاست کو پولیس شیٹ ہی بناتی ہے۔ لبرل شیٹ کا انداز شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کا راستہ اختیار کر کے ترتیب پاتا ہے۔ نفرہ کچھ لگاتا ہے اور عمل اس کے بر عکس کیا جاتا ہے۔

• قدامت پرست حکومت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم، علاج، روزگار، امن اور شہری آزادیاں ضروری حد تک حکومت کی ذمہ داری ہیں۔ لبرل حکومت کہتی ہے کہ یہ پرائیوریٹ سیکٹر کے کرنے کے کام ہیں۔ حکومت کا کام اخراجات میں کمی کرنا، بجٹ متوازن رکھنا، نیکسوں میں کمی کرنا، زیادہ آمدی والوں کو ترغیبات دینا اور کم آمدی والوں سے نیکیں وصول کرنا ہے۔

• لبرل طبقات معاشرت میں، ہم جنس پرستی، آزاد خیالی اور استقطاب حل کی حمایت کرتے ہیں۔ مرد اور عورت کی روایتی شادی کے ساتھ ساتھ عورت اور عورت، جب کہ مرد اور مرد کی شادی، یعنی ہم جنس پرستوں کی شادی کی اجازت دیتے ہیں۔ سزاے موت کی خلافت کرتے ہیں۔ اسلحر کھنے کی آزادی دیتے ہیں۔ قدامت پرست طبقات روایتی شادی پر زور دیتے ہیں۔ یہ طبقات طلاق سے نفرت کرتے ہیں۔ خواتین کو گھروں میں رکھنے پر زور دیتے ہیں۔

• افراد کے حقوق کے معاملے میں لبرل طبقات ہر فرد کو ایسا ذمہ دار سمجھتے ہیں جو ان کا استعمال خود طے کر سکتا ہے اور قوانین فطرت کے ساتھ مطابقت قائم رکھتا ہے۔ اسے اس کے

اعمال کے لیے صرف قانون کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ طویل مدت کی سزا کیں نافذ کرتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر عاصفہ صدیقی کو ۸۲ سال قید سنائی گئی۔ قدامت پرست طبقات حکومت سازی اور قانون سازی میں پارٹی اور معاشرے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ضرورت سمجھیں تو معاشی آزادی سلب کر لیتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے فارن کرنی اکاؤنٹس ضبط کر لیے تھے۔ وہ بظاہر لبرل تھے لیکن قدامت پرستی کا کام کر بیٹھے۔ یہ ان کے ڈنی خلبان پر محول قدم سمجھا گیا۔ لبرل طبقات ان سے خبردار ہو گئے کہ ان سے کسی بھی نوعیت کے اقدام کی توقع کی جاسکتی ہے۔

امریکا میں صدارتی انتخابات کا مرحلہ جاری ہے۔ ان کے حوالے سے ہم یہ بناتا چاہیں کہ دائیں بازو والا کون ہے اور باکیں بازو سے کس کا تعلق ہے، تو ری پبلکن پارٹی قدامت پرست ہے، اسے گرینڈ اولڈ پارٹی (GOP) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مضبوط وفاق کی حامی ہے اور اس کے نظریات کو ان کی انتہائی صورت میں فاشزم کے قریب کہا جاتا ہے۔ اس کی تازہ مثال ڈنلڈ ٹرمپ ہیں جو ری پبلکن صدارتی امیدوار بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر بن گئے تو مسلمانوں کا امریکا میں داخلہ بند کر دیں گے۔ ری پبلکن امیدوار امیر گریشن قوانین ختن بنانے کے حامی ہیں۔ یہ جمہوری ہونے کے باوجود ری پبلک کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ دوسرا ممکن بالخصوص مسلم ممالک کو قوت کے استعمال سے جمہوری بنانا چاہتے ہیں۔ عراق اس کی مثال ہے۔

ڈیموکریٹ پارٹی لبرل اور ترقی پسند جماعت بھی جاتی ہے۔ جمہوریت کو اولیت دیتی ہے اور ہر ریاست کے واضح شخص کی بات کرتے ہوئے ڈھیلے ڈھالے وفاق پر یقین رکھتی ہے۔ یہ باکیں بازو کی پارٹی ہے اور اپنی انتہائی نظری صورت میں کیونٹ نہ ہونے کے باوجود کیونزم کے قریب چلی جاتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ سیکولر کون ہے؟

ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیادار فرد ہے۔ یہ مذہب کو ماننے کے باوجود مذہبی نہیں ہے۔ یہ مذہبی اشرافیہ سے بہت فاصلہ رکھتا ہے۔ اپنی ذات اور شخصی اوصاف کے اعتبار سے لبرل ہے، قدامت پرست نہیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ لبرل ازم ابتداء ہے، راستہ ہے، جب کہ

سیکولر ازم اظہار ہے، منزل ہے۔ ایک سیکولر فرد، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مذہب یا الحاد کو اپنی شناخت نہیں بنتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ لبرل ازم سے فاشزم کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ لبرل نظریات پر عمل کرتے ہوئے یہ خود بھی فاشزم کا اظہار کرنے لگے۔ امریکا اس کی مثال ہے۔ سیکولر سمجھتا ہے کہ معاشرتی اور معاشی معاملات میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس لیے سرمایہ داری کو معاشی راستہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ دنیا کے معاشی مسائل کے حل میں مذہب ناکام ہو چکا ہے۔ وہ اس بحث کو غیر ضروری سمجھتا ہے کہ مذہب کو ایسا حل پیش کرنے کی اجازت ہی کب دی گئی ہے۔ پاکستان کی مثال سامنے ہے جس میں سود کے بغیر کاروبار زندگی کا چنان ناممکن قرار دیا جاتا ہے۔ یہ دینی جماعتوں کو مسترد کرنے کی بڑی وجہ بھی ہے۔

□ لبرل مسلمان؟ اس مختصر تحریر میں کوشش کی گئی ہے کہ جامع انداز میں بتایا جائے کہ لبرل ازم، قدامت پرستی، لبرل، قدامت پرست اور سیکولر کیا ہیں؟ کون ہیں اور ان کے خیالات کیا ہیں؟ اب ہم نسبتاً متازع معاملہ زیر بحث لاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آیا مسلمان لبرل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے؟ یاد رہے کہ لبرل طبقات کا کہنا ہے کہ لبرل مسلمان ایک گمراہ کن تعارف ہے۔

اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ایک مثال مستعاری جاری ہے۔ لبرل کہتے ہیں کہ ایک چڑیا گھر کا تصور کیجیے۔ اس میں پنجروں میں مختلف جانوروں کو قید رکھا جاتا ہے۔ لبرل مسلمان بھی ایک جانور ہے جو مذہب کے چڑیا گھر میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت سخت مثال ہے لیکن پورا مفہوم واضح کر رہی ہے۔ بعض مسلمان جب کسی مخصوص طرز یا انداز کا اظہار یا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ روایت سے الگ ہے، روایت مخالف ہے یا روایت شکن ہے۔ مثال کے طور پر:

- شراب نوشی کرنے والے مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لبرل مسلمان ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر لبرل شراب نوش ہو، یا لبرل ہونا شرابی ہونا ہرگز نہیں ہے۔ چونکہ مسلمان ایسا نہیں کرتا، اس لیے ایسے فرد کو لبرل کہہ دیا جاتا ہے۔

- بعض مسلمانوں کا طرز زندگی بظاہر بہت ماڈرن ہوتا ہے۔ وہ پتلون پہننے ہیں، نکھانی لگاتے ہیں لیکن وہ اپنے نظریات میں دین کے پکے پیروکار ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وضع قطع میں لبرل ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہوتے۔ انھیں

زیادہ سے زیادہ غیر روایتی روایت پرست کہا جاسکتا ہے۔

• دینی تعلیمات پر عمل پیرانہ رہنے والے، نماز روزے کے تارک اور زکوٰۃ و صدقات سے دور رہنے والے مسلمانوں کو بھی بل ازم کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بے عمل مسلمان ہوتے ہیں، بل ازم مسلمان نہیں ہوتے۔

ایسی مثالیں اور بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ بل طبقات کا کہنا ہے کہ ان مثالوں سے ان کی توہین ہوتی ہے حالانکہ ”بل ازم“ کا کھلا پن کہتا ہے کہ: ”توہین اور غیرت نام کی کوئی شے وجود ہی نہیں رکھتی“۔ وہ آزادی اظہار کے نام پر کہی کیسی توہین کے مرتبک ہو جاتے ہیں، اس کا انھیں احساس بھی نہیں ہوتا۔

□ ایک غور طلب پہلو: بات سمجھنے سے پہلے ایک اہم پہلو پر غور کر لیا جائے تو موجودہ حالات سے بھی قدرے مطابقت پیدا ہوگی۔ جب کسی مسلمان یا اہل ایمان کو قدمامت پرست، رجعت پرست یا بنیاد پرست کہہ کے پکارا جاتا ہے تو سننے والا، مخاطب یا جس تک بات پہنچتی ہے، فوری طور پر دو طرح کے رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اس رد عمل پر کیوں اتراتا ہے یہ الگ بحث اور نفیتی معاملہ ہے۔ رد عمل کی نوعیت یہ ہوتی ہے: • معذرت خواہی کا رد عمل • جارحیت کا رد عمل۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں رد عمل نارمل نہیں ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ: ”آج کا مسلمان زمانے کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے“، تو فوری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس دعوے کو باطل ثابت کیا جائے اور اپنے طرزِ عمل کو حق ثابت کیا جائے۔ اس طرح اس فوری رد عمل سے گویا کہ حق و باطل کا معزک چھڑ جاتا ہے۔ یہ معزک بحث کا ہو تو اس کا انجام نظر نہیں آتا۔ یہ معزک آمنے سامنے ڈٹ جانے کا ہو تو جنگ و جدل کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ دونوں نہ ہو سکیں تو بے بی اور مایوسی کا گھیر انگ ہو جاتا ہے۔

یہاں پر دو طرح کے رد عمل بیان کیے گئے ہیں۔ ان پر الگ سے بات کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا کہنا ضروری ہے کہ معذرت خواہی کے رویوں نے ہمارے معاشروں میں ایک تعداد کو دین، اس کی تعلیمات، ایمان و اعتقاد اور اس کے اطلاقی پہلوؤں کے بارے میں شک میں بنتا کر دیا ہے، اور پھر قدیم و جدید کی جنگ کا مظہر سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ تو نکست خور دگی کے عالم میں یہ کہنے لگے ہیں کہ: ”دین اسلام بعض امور میں عاجز ہے۔ معاشی مسائل کا حل پیش نہیں کرتا،

حالانکہ صورتِ معاملہ یہ ہے کہ بہت سے راست فکر اہل دین بھی قرآن و سنت، حدیث و فقہ اور تفسیر و تعبیر کے ذخائر رکھنے کے باوجود عصری امور و مسائل پر ان کے اطلاق کی صلاحیت، زمانی تبدیلیوں کی تشریع و تعبیر کی ذمہ داری سے خود کو سبکدوش کر چکے ہیں۔

اس عالم میں جارحیت کا ر عمل ابھرتا ہے تو کچھ لوگ مسئلہ بندوق سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یوں اپنے ہی ملکوں کو تباہی سے دوچار کرتے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ: ”چونکہ مسلم ممالک کی سرحدیں استعمار نے کھینچی تھیں، اس لیے ہم ان کو اپنے قدموں سے رومندیں گے۔“ یہ ایسا ر عمل ہے جو تنائج کو نظر انداز کرتا ہے۔ ر عمل کبھی بھی نتیجے پیدا نہیں کرتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق و شام تباہ ہو گئے۔ یمن و لیبیا برا باد ہو گئے۔ افغانستان کی بارٹ گیا۔ پاکستان میں بربادی نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس کے باوجود ر عمل سے پیدا ہونے والی جارحیت ترک کرنا گویا ”جهاد کا انکار کرنا خیال کیا جاتا ہے۔“ فی الحقیقت جن جھلاہٹ میں خود اہل دین پر یہ الزام تھوپ دینا ایک گمراہ کن تصور ہے۔ ان سب پہلوؤں پر گھرے غور و غوش کی ضرورت ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ ہر مرکہ اور ہر نوعیت کا ر عمل جہاد نہیں ہوتا۔ مسلمان طعنہ سن کر بے مزا نہیں ہوا کرتا۔ آج وہ طعنہ سنتے ہی ششیروں بے نیام بن جاتا ہے۔ علم کے موتی کو جہالت کے اندر ہیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس خلجان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ر عمل، اغیار کی پیروی اور اپنے آپ سے علیحدگی سے وہ تباہی بڑھتی جائے گی جس نے آج مسلم امہ کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اسلامی تحریک کو علم و عمل کی دنیا آباد کرنا ہوگی: ”اجتاعیت سازی کے بغیر عدل اجتماعی کی جدوجہد بے معنی ہے۔“ یہی ہمارے افکار ہیں۔ یہ نہ تو لبرل ازم ہے اور نہ قدامت پرستی۔ مسلمان کا براستہ اسلام سے وابستگی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تب ہی وہ فرقہ فرقہ ہونے سے بچ سکتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے، وہ لبرل، قدامت پرست، رجعت پسند یا بنیاد پرست نہیں ہوا کرتا: إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ فَمَا لَّا يَعْرِفُ اللَّهُ بِۚ (آل عمران: ۱۹:۳)

”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“

مکتبہ مصطفیٰ علی	تعیین صدیقی	مکتبہ مصطفیٰ علی	ڈاکٹر محمد احمد غازی
480/-	حسن انسانیت	400/-	حضرات قرآن
150/-	سید انسانیت	600/-	حضرات پیرت
210/-	رسول ﷺ اور رسول ﷺ	500/-	حضرات حدیث
600/-	تو روکنی ندیاں رواں (فتحی کلام)	500/-	حضرات فتنہ
220/-	تجزیٰ شعور	500/-	حضرات شریعت
125/-	اقفال (المطلوب کا مجموعہ)	500/-	حضرات میہشت و تجارت
75/-	شعلہ خلیل پر اضافہ شعاع روزان	500/-	رائے خدا بخش کلیسا یا ووکیٹ
120/-	ایقاں کا شعلہ بنو	350/-	فلسفہ سائنس اور قرآن
130/-	شعاع حال (غزلیں)	200/-	پیرت کا ایک مطر جھنکر
250/-	عورت معرض لکھنی میں	150/-	آب زرم (زمیں) (جزءہ کو جگ)
80/-	مسرک دین و سیاست	220/-	اسلام میں حادث کا حقیقی مفہوم
90/-	اور وہاں گار	60/-	پیری آخی سانش
500/-	تلیہ کا تہذیبی تظریف	450/-	فقہالنہ (محمد عاصم الحداد) /-
200/-	مشتری آگ (افسانے)	600/-	سفر نامہ راس القرآن (عجین)
21/-	قیمت پیرت کے لوازم	بیت اللہ کعبہ شریف (یحییٰ احمد بن حمییٰ کرم الدین)	(قدیمہ مشریف کی مدد پر مہر لاتیح اور قبر) (20x30) ساری ہے، عجین
21/-	انی اصلاح آپ	2500/-	چاہرے زریلوے مخفی ریس اور شریف کا
18/-	یہ زندگی	250/-	

Gazni Street Urdu Bazar, Lahore.


Phone: 37230777 - 37231387

www.alfaisalpublisher.com.pk  
E-mail: alfaisalpublisher@yahoo.com

نامزد اسلامیہ تحریک

الفیصل

پڑھنے کا کرۂ فضل اللہ کے قلم سے  
مصیتیوں سے کیسے مٹیں؟



### اس کتاب میں

- کتاب وہ مت اور سلف صالحین کی پیرت کی روشنی میں  
حسب ذیل (۴) مسالات کے بحث دیئے کہ تو قسم الہی کے کوشش کی کی ہے۔
- مصیتیں کیوں آتی ہیں؟
  - مصیتیوں کے آنے سے پہلے کیا کریں؟
  - مصیتیں آنے کے بعد کیا کریں؟
  - مصیتیوں کے ختم ہو جانے کے بعد کیا کریں؟

### ام حافظ ابی الفداء عما دلتین ابن حکیم

- پیرت رسول پر جامع کتاب  
تین اکرم ﷺ کے حالات و واقعات کا بہرہ میں مجموع  
پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ مولانا ہدایت اللہ ندوی حلطہ  
تین جلدیں پختہ عمدہ طباعت

رعائی قیمت بمعذک خرچ 1500 روپے

ر عائی قیمت 400 روپے

ر عائی قیمت 400 روپے

0335-  
5666876  
0321-  
5336844

دائرۃ النور  
اسلام آباد

042-37230585  
0321-4460487  
رہمان مارکیٹ غزنی شریعت اردو بازار لاہور

ملنے کے  
پتے